

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

إِذَا الدِّينُ عِنْدَ اللَّهِ الْخَالِدُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

AHMADIYYA GAZETTE

(Canada)

May 1978

MANSOOR A. BASHIR
36 THORNCLIFFE PARK DR. #505
TORONTO, ONTARIO
CANADA M4H 1J8

Editor: M. A. Bashir

(416) 424-4244 (416) 425-2351

Sub. Editor: Zakaria Vi

The Holy Qur'an

REVELATION

When the moment of divine revelation comes, the first thing that happens to me is a kind of semi-sleep. In this condition, I feel a changed man. I have my senses about, my understanding as well as my general awareness. But this is only superficially so. What I really feel is that another being—a very powerful being—has overpowered me, lifted me and closed the hollow of His Hand upon me. I am now completely subjugated, with no will or volition of my own, every part of my being in His control, manipulated by Him. Whatever is ordinarily mine is now His. In this state, thoughts, themes, problems on which I happen to be thinking, come to me projected by God before my mind's eye. And these, God now wants to illumine by His own speech. In a most strange manner, my thoughts move before me one by one. It may be that I think of one Zaid who is sick and about whom I wish to know whether he will recover or not from what he is suffering. At once, a piece of divine speech drops like a ray of light, shaking my whole being. This over, another thought or theme is before

me and another piece of revelation drops on it. It is as though an archer is shooting at targets raised one by one in succession. The feeling at the moment is that the procession of thoughts or themes springs from my natural dispositions but the speech which drops on them comes from above. True, poets sit and think and then become inspired and write their verse. But the two inspirations are very different. To think them similar is not correct. The poet's inspiration is the result of hard thinking, of effort. When it comes, there is full awareness of himself and his surroundings on the part of the poet. Everything happens within normal everyday limits of such experience. But divine inspiration, when it comes, entails overpowering by God of the entire being of the recipient of revelation; he may be aware and well oriented but he has no power over what is happening. It seems as though his tongue is not his but is in the possession of another great power which manipulates it. The experience which I describe makes it quite clear what the distinction is between human disposition and divine revelation.


MIRZA GHULAM AHMAD.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ
مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ
وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ
وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

1. In the name of Allah, the Gracious, the Merciful.
2. Say, 'I seek refuge in the Lord of the dawn,
3. 'From the evil of that which He has created,
4. 'And from the evil of the night when it overspreads,
5. 'And from the evil of those who blow into knots to undo them,
6. 'And from the evil of the envier when he envies.'

Saying of the
Holy Prophet s.a.w.

"There shall be no envy but (emulate) two the person whom Allāh has given wealth and the power to spend it in the service of Truth, and the person whom Allāh has granted knowledge of things and he judges by it and teaches it (to others)." (B. 3 : 15.)



AHMADIYYA OVERSEAS NEWS

Health of Hazrat Khalifatul Msasih the 3rd:

The mouthpiece of our Movement daily Al-Fazl dated 4th May 1978 reports that Hazrat Mirza Nasir Ahmad, the 3rd Khalifa of our Movement, is enjoying sound health these days. He is expected to be in London shortly in connection with the forthcoming conference.

London Conference:

Imam Bashir A. Rafiq, convener of the London conference 'Deliverance of Jesus from the Cross' has informed us in a letter that all the preparations for this momentous conference have been made in a satisfactory manner. The non-Muslim speakers have given their firm commitments, invitation requests are pouring in, the T.V. Radio and Press are giving wide coverage to it. Hazur will insha Allah deliver the inaugural address. Following brothers from Canada are expected to attend this auspicious occasion.

1. Br. Mostafa H. Sabet - Toronto
2. Br. M. H. Cheema - Toronto
3. Br. A. Bari Ahmadi - Calgary
4. Br. Ilyas Chaudhry - Calgary
5. Br. Dr. Momin Khalifa - Nova Scotia

Gold

Medal for Dr. Abdul Salam:

The National Academy of Italy has awarded Gold Medal for 1978 to eminent phys. cist Professor Dr. Abdul Salam of Imperial College London, in recognition of his services rendered towards Science Education in Pakistan and under-developing countries.

(daily Imroz, Lahore 11th April 78 page1)

Solicitation for prayers:

Hazrat Maulvi Muhammad Din, a companion of Promised Messiah, President Sadr Anjuman Ahmadiyya is seriously sick these days. All are requested to pray for his speedy recovery.

Inauguration of Another mosque in Ghana:

Mr. Wahab Adam, Missionary Incharge Ghana has cabled Rabwah that the inauguration of another splendid mosque in Asyam, took place with the Grace of Allah. The construction cost was 1,50,000 ghanian pounds. Prominent personalities participated in the ceremony.

Calcutta Book Fare:

On 24th Feb 78 the Calcutta Book Fare was inaugurated in Victoria Memorial Ground. Close to 200 booksh ops took part in this Fare. Ahmadiyya Movement Calcutta also staged a splendid exhibition of Ahmadiyya literature in this grand book Fare. Our shop displayed books in Hindi, Urdu, English, Gormakhi, Bangla and Chinese alongwith copies of recently printed English translation of Quran. According to a rough estimate 50,000 persons saw our books, 15000 pamphlets in different languages were distributed. This is the first time that Islamic books were displayed in this Fare.

*** Local nes newspapers gave news-items about book-stall and T.V. telecasted our books on the screen on March 14th/78.

Sultan A. Zafar, Badr 30th March 78.

Hollywood Directors in Kashmir:

In our last month's Gazette we gave an account of the visit of Hollywood Film Directors in Kashmir. Weekly Badr of Qadian states that Professor William Gladstone of Howard University, Washington D.C. came to Qadian on 8th April 78 alongwith a Liaison Officer of Foreign Office New Delhi. Professor Gladstone was received at Masjid Mubarak's A Gate by Malik Salahudin Sahib, Acting Amir and was given rousing welcome by shouts of 'Ahlā-wa-sahla-wa-marhaba'. After lunch and siasta he toured the holy places of Qadian. Both the guests stayed the night in Qadian and went to Indo-Pak border early morning to receive their colleagues coming from Pakistan. They are expected to start the shooting of a documentary film on Jesus Christ in Kashmir on April 17/78.

AHMADIYYA MAPLE LEAF NEWS

Holy Quran Presented: Mr. A. Latif Chaudhry, President Ottawa Chapter of the Movement, presented Holy Quran and Ahmadiyyat or the true Islam to His Excellency Mehboob Ahmad, High Commissioner of India in Ottawa.

Obituary:

Miss Shahida Sharif daughter of Soofi Sharif Ahmad of Lahore (youner brother of Soofi Aziz Ahmad) passed away in Lahore in fatal motorcycle accident at the prime age of 24. Namaze Janaza Ghaib was offered in our May Monthly meeting. May Allah award the deceased a chosen place in paradise. Amen.

Imam Mansur on tour to Western Canada:

Imam Mansur left Toronto on May 9th/78 for a 3 week tour of all the western Canada jamaats. His first stop was Sudbury, then Winnipeg, Saskatoon, Edmonton and Calgary. He will be inaugurating the first Conference of western Canada jamaats on 21st May 78. Imam Sahib is expected to be back in Toronto by the end of the month.

Weddings in Toronto:

1. Mr. Khalid Iqbal Qureshi got married with Miss Amtul Nasir daughter of Khawaja Rahshid Ahmad Marhoom of Sialkot in Toronto on 6th May 78. The Rukhstana took place on 4th May 78 at the residence of Khalifa Abdul Wakil and Walima took place on 6th May in which close to 250 persons from Ottawa, London Toronto chapters participated. May Allah bless this union and congratulation from all of us.

NEXT MONTHLY MEETING:

Date: 4th June 78 at 2 p.m.
at D & M. Collegiate, Scarborough

KHUDDAMUL AHMADIYYA PICNIC

on 27th May 78, at 9:30 a.m. Boyd's Park
admission 3/-dollars for adults and 50 ¢ for kids
over 7 years. All requested to join in this picnic
For road map see Urdu section.

MEET BROTHER HUBSCH

Brother Hadayatullah Hubsch is a leading figure of W. Germany. His poems and articles have appeared in our Jamma's periodicals from time to time. We are pleased to present this interview to our readers. This interview was conducted by Zakaria Verke via mail.

Q. Brother Hubsch, would you please like to tell our readers about yourself?

A. I am now 32 years of age, married to an Ahmadi-lady from Mauritius. We have one child, a daughter, who was named by Hazur Atia Nuur (gift of the light). I am a poet by profession, working for radio and newspapers.

Q. When, how and why did you accept Islam?

A. I was amongst the communist youth, then I turned to Hippieism and drugs. I was not satisfied and tried to find light in Zen-Buddhism. During a journey to Marocco on a "trip" I suddenly turned towards the sky and said in german language O ALLAH PLEASE PURIFY ME. I had no real idea who Allah is and why I said this. Later on, after horrible experiences, I came back to Germany and in a very desparate state of mind I was guided towards a copy of the Holy Quran in german, which was placed in my bookstall (I did not know this really). The very first words which I read in this book convinced me about the truth of Islam and immediately said to myself: Now you are muslim. (I was practicing Yoga in those days). It was an emotional decision, based on true insight and experience. This was in Autumn 1969. Later on I found the Ahmadiyyah Mosque in Frankfurt and in Summer of 1970 the missionary incharge, Masud Ahmad, asked me sign Baiat.

Q. You have embraced Islam by your own free will, how do you look at the Pakistan's decision of calling Ahmadis non-muslims?

A. It was purely a political decision and with the downfall of Bhutto after some time the decision will be banned again and the Ahmadis will be regarded as muslims. Actually it distinguishes us from non-Ahmadi muslims even by law, and no power of the world can make a decision regarding whether I believe or not.

Q. Is there any collection of your german poems?

A. In 1969 the first volume appeared as a popular edition. After my conversion a second volume came out which dealt with my drug experience and my way out of it. Since then I have mostly published in magazines and radio. Especially a 4½ hours radioplay on my way to Islam was broadcasted several times. A new volume of mystical poems could not appear so far as it was too much religious minded. I am now working on another volume about day-to-day problems and political ideas in the view of Islam which will be published insha-Allah in Autumn 1978.

Q. How do you assess the personality of the present head of Ahmadiyya Movement?

A. I was never so much impressed by any person than by Hazrat Khalifatul Massih III. I have seen and met him many a times and his words are unforgotten in my mind and memory. He is my friend and the best human helper. His prayers have saved my life many a times and I believe that I would have never reached my todays state without his assistance. He is a genius and I am a dedicated follower of him.

- Q. Did you ever write an article in german dailies about Islam ?
- A. Actually Islam is the very life of myself and the assence of all my writings are deeply connected with Islamic teachings. It might appear to an outsider that the topic of a bookreview for example is not Islamic, but this is wrong. As I am a muslim with all my heart my pen refuses to erite merely literature or art. It is always Islam, which I write, somrtimes more apperantly and sometimes more hidden. If I can get the opportunity to write very clearly about Islamic teachings I certainly do, but it is not very easy to preach by the mass communications medias in an open tongue, one has to preach step by step, first right thoughts, then right morals, then right spirit. I just made a one hour speech on my journey to Pakistan which is more or less a description of Islamic ways. In dailies I use to erite about films on Islam, which appear in TV (as a critic). A time will come when all the people who are thirsty will get fresh knowledge about the Islamic ways of life in the form of Khutba.
- Q. How do you find the instruments of our movement's missionary operations and propaganda ?
- A. It is the system of Khilafat and obedience which enables us to progress. In my 8 years of Ahmadiyyat I have learned that it is only due to this scheme that we can survive. I only regret that in countries where (outside Pakistan) the Pakistani members are in majority the missionaries are burdened with taking care of them that it becomes difficult to do the real job of converting non-Pakistanis. But I think if the process of driving out the hypocrites is finished and if the Pakistani members are seeing that the western way of life is mere poison this problem will be solved too. If only every member would understand that he is a missionary by himself , then he would be more zealous to preach and propagate by word and writing the truth.
- Q. Did your conversion to Islam change your world view or outlook ? I mean in what manner did it affect your social life, life style or your behaviour.
- A. I am dressed in a typical Pakistani/Indian way, sherwal, sherwani and turban. This due to a dream and the personal advice of Hazur. I have completely abondoned the western way of life. I am not listening to music, I am not used to go to cinemas or watch TV. My wife is observing complete purdah including veil, I always start all my letters (including bussiness mail) with the words:: in the name of Allah, Most Gracious, Ever Merciful, He alone is the Helper. I praise Him and invoke His Blessings in His Noble Prophet Muhammad. It is not an outward change, it is coming deep inside, as I am convinced that the western way of life is a way of error and mischief. I try my best to live according to Hadith and Quran and you can say that I have undergone a complete transformation of inward and outward behaviour. May Allah accept my humble efforts and enable me to serve Islam and Ahmadiyyat better and better. Ameen.

EXHIBITION OF THE TRANSLATION OF QURAN

The exhibition of the translations of Quran will insha=Allah be taking place on July 1,2/78. Also books on Hadith, Life of Muhammad and life of Jesus Christ in Kashmir will be displayed. Books Lend
translation on book you may have

From the Press

The Daily Telegraph: March 16th, 1978

ENVOY WITH MISSION OF CONVERTING BRITISH TO ISLAM

Anis-ur-Rahman has arrived in Blackburn, and if his work goes to plan, in the next 300 years he and his followers will convert the entire British population to another religion.

Thirty-year-old Anis Anis, a married man, came to England from Pakistan less than a year ago and has been appointed missionary in charge of the AHMADIYYA MOVEMENT - ISLAM in the North of England.

His aim is to spread the Islam religion. It is a religion of peace, he says, and already he claims to have converted FOUR CHRISTIAN ENGLISH PEOPLE to the faith.

Now he wants to talk to organisations, clubs, church people, colleges, and schools about the religion, which has more than 10 million followers in the world.

They believe that Christ did not die on the cross, that he died a natural death and has already returned to earth to live and they support their beliefs with historical Biblical and logical evidence. Much of this will be presented at an international symposium to be held in London in June 78.

"There are a lot of misunderstandings about our beliefs, and it is my purpose to remove these", said Mr. Rahman, a doctor of religion and doctor of the Arabic language.

"I want to convey our message peacefully. It is really the task of God to convert people to Islam. I am only a medium for this". He hopes to do this at a meeting to be held in Blackburn later in the year.

"About 99 per cent of people are running away from religion because they do not feel religion properly", religion is a means to peace and I believe that in 300 years Islam will be all over the world". said Mr Rahman, who can be contacted at Huddersfield 0484 - 41468.

Express and Echo, England 29th March, 1978

CHRIST'S TOMB 'found in Kashmir' MEETING TOLD

An Indian archaeologist believes he has found the tomb of Jesus Christ in Kashmir, the Imam of the London Mosque, Mr. B.A. Rafiq, told a conference at Birmingham today.

He said that Professor F.M. Hassnain, State Director of

of Archaeology in Kashmin, would be visiting London in June to present evidence for his claim at an international conference to discuss the concept that Jesus did not die on the Cross.

"Professor Hassnain has authorised me to state that he has discovered a Christian cross in the tomb in Kashmin. He has also discovered and deciphered certain inscriptions on a slab of stone which support this claim."

Mr. Rafiq is the leader in Britain of the AHMADIYYA MOVEMENT IS ISLAM, which believes Jesus did not die on the Cross but was taken down by his disciples and recovered from his wounds before travelling to India. There he died at a great age and was buried in a valley in Kashmin.

Mr. Rafiq told the conference, organised by the movement, that Professor Hassnain was not an Ahmadi. "He does not believe what we believe - so his opinion is quite unprejudiced."

The tomb at Srinagar was known to all as the tomb of Jesus the Gatherer. It had a Christian cross and a slab of stone in which the sculptor had cut an outline of two feet pierced with holes.

"These holes correspond to where the nails that pierced the feet of Jesus would be"

Professor Hassnain will be showing photographs of the tomb at the conference in June, also organised by the movement which is launching a crusade to convert the world to Islam.

Those attending would hear evidence presented by the professor from Sanskrit, Persian and Jewish sources to support his claim.

DO YOU KNOW:

** The greatest living linguist is George Schmidt (born 1915) of U.N. Translation Department in New York, who can speak 30 languages.

** Most valuable Book. The most valuable book is Gutenberg Bible, bound in 3 volumes, priced \$ 330,000. (Recently this Bible was auctioned in New York for two million dollars, bought by a German)

** Largest Newspaper: The most massive single issue of a newspaper was THE NEW YORK TIMES of Sunday Oct 10, 71. It comprised of 15 sections, 972 pages. Each copy weighed 7½ pounds and sold for 50 cents each.

** The longest word in the Oxford Dictionary is FLOCCIPAUCINIHIPIILIFICATION (meaning ' the action of estimating as worthless'. 29 letters.

W E . B E L I E V E

In the name of God, the Gracious the Merciful.

We believe in the One Superme Being, the Creator and Sustainer of all the Universes and Master of everything. He has no partner or equal. He neither begets nor is He begotten, and there is none other of His kind.

We believe that the Almighty God, Whom we call Allah, has sustained mankind with his revelation and guidance from the beginning just as He has given us food and drink. As He caused our bodies to grow and perfected them by stages, so has He perfected our souls through His revealed Word which also came by stages.

We believe in the Prophets of God through whom this Revelation was given...in each and every one of them, in whatever land or among whatever people he was raised.

We believe in Abraham, Moses, Jesus, David, Solomon, and many, many more whose names we do not know. We invoke peace and blessings of God on all of them.

These righteous servants of God gave man his earliest lessons and prepared him to receive the whole truth to come.

We make no distinction between these prophets but accept and love them one and all...not as a mere courtesy but as a matter of faith.

We believe in Muhammad, the Messenger of God, the Comforter, the "Spirit of Truth", who was promised by all of the Prophets from the beginning. Through him the "Whole-Truth", God's final revealed book, was given and through him mankind will at last be united under the One True God. May God bestow upon Muhammad peace and blessings without number.

We believe in the Holy Quran(Koran), the Word of God, the perfect book which tells us how to establish a personal relationship with our Creator and how to get along with our fellow men. The Quran confirms and retains the basic truths in all religions and resolves the differences among them. In it every man, from whatever faith he comes, will recognize his own.

Continued on next page.

We believe God speaks today as He has spoken from the beginning. As He sent His chosen messengers to men of old, He sends them to us today. And they will continue to appear in the world whenever men stray from the true law of God as expressed in the Holy Quran. In our age, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, the Promised Messiah of the Latter days, has appeared to call men back to God, and to the religion of his master, the Prophet Muhammad. His coming was like the coming of Jesus, the Jewish Messiah, who called the Israelites to truth in ages past. Indeed the coming of Hazrat Ahmad has fulfilled the prophecies about the second coming of Jesus.

We believe in the equality of men, in human dignity and absolute freedom of religion. Every man has an equal right to share in the bounties of God, to choose his own faith, and his own destiny.

The Quran says that there should be human equality and also tells us how this may be accomplished. The result is that we have no segregation although we come from every race and every country.

We believe in the absolute wisdom of God and the wisdom of His laws. We accept no mysteries of faith which are not in accord with the laws of nature and the pure conscience of man.

We believe wholeheartedly in the promotion of science and education, for without knowledge of ourselves and the world we live in we cannot know God.

We believe in the life after death and in the ultimate salvation of all mankind. The Holy Quran, the word of God, teaches that every man was created with but a single purpose.... that he might know and serve the One True God. Every man will return to Him on Judgment Day to give an account of himself. He will be spared or punished according to his own actions and the measure of his understanding.

No mere declaration of faith can save him and none other can atone for his sins. But, surely, the Mercy of God encompasses everything.

Our faith is called by the name "ISLAM". This is simply the Arabic word for "PEACE", which is attained by complete surrender to the will of God.

@@

*** *****
 CITIZEN OF THE TWO WORLDS

But immediately on our return to India I was luckily given four months leave. At least for this period we could live in the peace & quiet of our home in Qadian and pretend that all was well. This feeling was greatly reinforced by two good neighbors. One owned a nearby farm and orchard and kept many horses. The other good neighbour was Zafrullah Khan, a long-time friend of my father.

After a few years of brilliantly successful law practice, Zafrulla had entered politics, and in a very short time had attained cabinet rank in Delhi. By the end of World War II, he was a statesman of international standing, extensively traveled, and on terms of intimacy with eminent world leaders . in all wark walks of life. In later years he was well known in the United Nations before becoming a judge of the International Court of Justise at the Hague.

Compared to Zafrulla, father's position in life had been a humble one, but they had a strong common bond in their equally deep religious faith. I had known and admired Zafrulla from a distance since college days, and over the years it had given me much vicarious pleasure to see his wonderful qualities win universal acclaim. Everyone talked of his intellectual brilliance, his prodigious memory, his magic eloquence his razorsharp wit and his high statesmanship. But I had not dared intrude much on a busy person with heavy burdens of statecraft and our relationship had not been a close one.

By a fortunate coincidence, during my leave in Qadian, Zafrullah was there on vacation. He made me welcome, and we saw much of eachother. I became his privileged friend. He was a lover of Persian classics, and I had brought from Persia a special edition of Rumi, the great Sufi mystic. This gave Zafrulla much . . . pleasure His endless stories of famous people fascinate me, and if he told a common anecdote he held me spellbound by the manner of telling it.

Behind a somewhat curt exterior I found a man of charm and humility, unspoiled by worldly success. I saw personal confirmation of what I had previously heard from father; much of what Zafrulla earned he gave away to deserving causes. Those few weeks in his company were a memorable education.

Unfortunately that education came to a sudden unexpected end. I was pulled out in the middle of my leave, flown out to the Persian Gulf in a Royal Air Force plane, put down in the wild desert kingdom of the Sultan of Muscat and Oman and . . . escaped becoming his Prime Minister only by a narrow margin.

Citizen of two worlds - by Mohammad Ata-ullah
 pages 173, 174 175.

Harper and Brothers Publishers, New York 1960
 Printed in the United States of America.

Colonel Ataullah Sahib, former Chairman Fazole-Omar Foundation, passed away in 1977 at Peshawar, Pakistan. A physician by profession, he was a member of the team who conquered K 2 mountain in 1954. His autobiography leaves one with feeling that one has made a fabulous journey in the company of a wise and witty Citizen of the Two Worlds.

لاہور سے ایک خط

شریفہ ہوں کہ آپ کے مکتوب محبت کا جواب پھر تاخیر سے لکھ رہا ہوں۔ گناہ کیا کروں، گذشتہ چار سالوں سے مصروفیتیں بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایسی بے رنگم ہوئی ہیں کہ خطوط لکھتے تو دیر لگا کر سونے کی فرصت بھی نہیں۔ اور جوں جوں سے لیسریر دراز ہوئی اور وسط لپٹا گھٹن زدہ گئی ہے۔ اُسکی وجہ لاہور کا آبرو گویا ہے۔ یہ جو لڑائی کے ذریعہ تک اس کا ایک شہرہ روزانہ پیشیاں بھگتتا ہے انہوں میں خاصہ دیر دیر اور ہر دوہویں دن ڈھکائی آرکے تحت کسی نہ کسی تھانے کی یا تار کرنا بھی تھا اس پرسترا دیہ کہ لاہور ٹیکس ہر قسم کے سرکاری و نیم سرکاری اثباتات اندر بغیر حریف نہیں۔ انہوں میں سکت نہیں۔ کاغذ کا کوٹا پور اسٹین طلبا۔ ایک حقیقت ہر حقیقت بازار سے چند گراہوں خریدنا پڑتا ہے۔ سٹاف نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس لئے ہر سہفت اگلے سہفت کے پرچے کی اشاعت شکوک ہوتی ہے۔ یہ تو میرے قومی کا کرم خاص ہے کہ لکل رکھیں اور باقاعدہ لکل رکھیں۔ اگر اس شمع کو قروڑاں رکھیں۔ آئین لظم سنی اور اسے سماع

ذکر میرا چھوٹے بہتر ہے کہ اس محفل میں تھا۔ ہر قسم یہ سب اس کا کرم ہے۔ بحیثیت بات ہے کہ یہ لظم غیر اہری حلقوں میں بھی اس قدر مقبول ہوئی کہ متعلقہ لپچہ دو دفعہ شائع کرنا پڑا۔ الحمد للہ تم الحمد للہ۔ بس یوں سمجھئے کہ میں آپ سب کا کارڈ "ہوں اس لئے آپ لوگوں کی دعاؤں کا مستحق و محتاج۔

شہاب ثاقب کے بعد دولہے ترتیب دیئے تھے ایک قوی منظومات کا اور دوسرا ادبی منظومات کا مگر دونوں اسی طرح رکھے ہیں۔ فرصت ہی کہاں ملی تپے انکی طرف دھیان دینے کی کچھ حصہ منظومات ایک دفعہ تلاشی میں پوچھیں اٹھالے گئی تھی وہ ابھی تک والیں نہیں دلا۔ ایک سچی جمیل "تجدید گزٹ" کی صورت میں جب بھی دیکھتا ہوں اسے ابور شوقی پڑھتا ہوں۔ اور آپ کے لئے دعا میں بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا میں بہکت ڈالے۔ اس گزٹ کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ یہ جہالت کے باہمی رابطہ مضبوط کا ایک پاکیزہ واسطہ ہے۔ لاہور تو آپ کے پاس آتا ہی ہو گا۔ آپ اس میں سے جب چاہیں کوئی صفحہ لظم یا اقتباس اپنے گزٹ میں نقل کر سکتے ہیں مگر ایچ آر قمر صاحب بارشہ قلبی تعاون فرماتے رہتے ہیں۔ اُنک ہر خط پر تجھے یہ بھی خوشی ہوتی ہے کہ دوستوں کو راقب اور لاہور یاد ہیں جس طرح کہ آپ کے مکتوب سے ہوئی۔

برادر امی جماعتوں کے کچھ آکر پوچھ رہے ہیں میں نہ کرنا کوئی اور کرتا۔ یہ تو میرے حال کا کرم ہے کہ اس نے اس جہالتی ہم کلپ اس مایہ ناز کو جن لیا۔ اور مجھ سے سرکار کا ملازمت چھوڑ کر حضرت المصالح المبرورہ نے جو صحافت کی جو ترقی دہائی تھی۔ وہ جہالت کے کچھ آگئی الحمد للہ تم الحمد للہ۔ شہاب ثاقب کی دو جلدیں نذر لپچہ مضبوط ڈھانک کچھ اسی جاری ہیں۔ میرے چاہیں تو انکی قیمت بھرت کے بجائے آپ ان نسخوں کو اس مایہ ناز کی طرف سے آخری گزٹ لپچہ لپچہ قبول فرمائیں۔ رہے ان کے ساتھ تمام ادبیات سے سرکار اور درخواست دعا۔ والسلام

کیا میلاد آنحضرت صلعم مناجا جائز ہے

(استفتاء از نظارت دعوت و تبلیغ)

کیا اسلام اور حضرت مسیح موعودؑ کی تعلیم کی روشنی اور سلسلہ عالیہ احمدیہ کے تعامل کی روش سے حضرت رسول اکرم صلعم کے میلاد کا مناجا درست ہے اور جائز ہے۔ اگر نہیں تو اسکی کیا سند ہے کیا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یا خلفائے رسول کریم صلعم یا ابتدائی زمانہ کے مسلمان میلاد کے جلسے کیا کرتے تھے؟

فتویٰ جامعہ حریت میں بدعت کی یہی تعریف آئی ہے کہ مَنْ أَخَذَتْ فِي أَمْرٍ زَاهِدًا مَّا لَيْسَ مِنْهُ فَخَوَرُ دُ - کہ جو بیمارے اس امر میں کوئی ایسا کام پیدا کرے جو اس سے نہیں ہے۔ پس ایسا کام سردور ہے۔ اور بدعت کے متعلق حکم یوں فرمایا ہے۔ لَا وَكَلَّ مُعْدِنَاتِ بَدْعَةٍ وَكَلَّ جَذَعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكَلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ - دینی امر وہ ہے کہ نہ کرنے پر مذمت ہو اور عذاب ہو۔ اور کرنے پر ثواب ہو۔ یا یوں کہ جس کام کو نبی کریم صلعم نے کیا یا فرمایا یا آپ کے سامنے کیا گیا ہو۔ اور آپ نے منع نہ فرمایا ہو۔ اسی طرح وہ کام جو خلفاء کی سنت میں داخل ہے۔ یہ دین ہے۔ اگر بعد میں ہم کوئی ایسا کام کریں۔ کہ ہم سمجھیں کہ اگر ہم یہ کام کریں تو ثواب ہے۔ اگر نہ کریں تو عذاب ہے۔ یہ بدعت ہے۔ نبی کریم صلعم کی ولادت کے حالات معلوم کرنے یا معلوم نہیں تو سن لیتے یا لپٹھ لیتے یہ اچھا کام ہے۔ لیکن یہ کہ کوئی خاص دن میں اس کا پڑھنا یا سننا موجب ثواب ہو جائے یا نبی کریم صلعم کے سامنے ایسا کیا گیا یا خلفاء کے سامنے ایسا کیا گیا ہو۔ اس کا حدیث سے قطعاً کوئی ثبوت نہیں۔

خیر القرون کے گزرنے کے بعد اس کام کو موجب ثواب سمجھ کر کرنا اور خاص دن میں کرنا یہ بدعت ہے۔ اور بدعت کا حکم پرے میں لکھ چکا ہوں۔ (۲۵۳۹)

(جواب والے) آف سیال کوٹ سے لپٹھایا تھا حرفہ ۴ مئی کو دعوت ولیمہ کی تقریب محل میں آئی۔ جس میں اوٹا وہ۔ ٹورنٹو۔ لندن جماعتوں کے ۲۵۵ افراد نے شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ یہ رشتہ دولوں خاندانوں کیلئے مبارک کرے۔ آمین۔ جماعتیں اہمہ کنڈرا کے تمام افراد مکرم و دودا احمدیہ اور انکی بیگم اسی طرح حکم خارا اقبال قریشی مدنیہ اور انکی بیگم کو یریرہ تبریک پیش کرتے ہیں۔

رپورٹ بحیثہ اماء اللہ ٹرسٹ ماہ اپریل ۱۹۷۸ء

۱۲ اپریل بروز اتوار بحیثہ اماء اللہ کا اجلاس مردانہ اجلاس کے ساتھ ہوا۔ کیونکہ آج کا اجلاس سیدۃ النبی پر تھا۔ چند تقاریر سننے کے بعد خواتین اگلے سال میں چلی گئیں۔ جہاں پر حرمہ عطیہ عطیلی جان صوبہ صدر بحیثہ ٹرسٹ نے بہتوں سے خطاب کیا۔ اور انہیں اس پروگرام کے متعلق بتایا جو بحیثہ ٹرسٹ سالانہ کنونشن کے موقع پر کر رہی ہیں۔ تقاریر کے عنوان بتائے گئے۔ انگلش تقریری مقابلہ کیلئے کافی بہتوں نے نام اکھوائے۔ اسی طرح باقی مقابلہ جات کیلئے بھی بہتوں نے نام اکھوائے۔ اور پروگرام مرتب کیا۔ نمائش کے سلسلے میں حرمہ عطیہ احمد صوبہ نے جو سیکرٹری نمائش ہیں انہوں نے سے مشورے لئے۔ اور اس نمائش کو کامیاب بنانے کی تلقین کی۔ آخر میں دعا کروائی گئی اور یہ حقیر اجلاس اختتام پذیر ہوا۔

سیکرٹری تعلیم و تربیت حرمہ عطیہ قاضی صوبہ نے بہتوں سے امتحان لیا۔ اب بہتیں بڑے شوق سے اس میں حصہ لیتی ہیں۔ اگلا امتحان انشاء اللہ جولائی میں ہوگا۔ سیکرٹری مال حرمہ رضیہ مبارک صوبہ نے اس ماہ چندے کی تفصیل مندرجہ ذیل بتائی۔

چندہ قمیری بحیثہ - ۱۵۴ ڈالر چندہ درویشاں - ۴ ڈالر

چندہ تحیک جدید - ۱۵ ڈالر - صدقہ - ۵ ڈالر

والدہم - انیسہ دانیال
صبر سیکرٹری الحیثہ اماء اللہ ٹرسٹ

شادی کی دو تقاریر

① عزیزم و زود احمد چوہدری کالکاح عزیزہ تنویر جہاں بنت ملک بعد الحفیظ صاحب سے گزشتہ سال مری سلسلہ چھر شفیق اشرف صاحب نے پڑھایا تھا۔ اس سلسلہ میں تقریب رشتہ ناتہ راولپنڈی میں ۱۲ اپریل کو عمل میں آئی۔ اور ۱۲ اپریل کو حکومت ولایت کا انتظام آوارہ حرم مولوی عطاء محمد صاحب صحابی حضرت مسیح موعودؑ کے رابعہ میں کیا۔ جس میں خاندان حضرت امیر المومنین سے بھی چند افراد نے شرکت کی۔ تمام احباب سے درخواست کی کہ یہ رشتہ اللہ تعالیٰ جہنم کیلئے مبارک کرے۔ آمین عزیزم و زود احمد اہلیہ سمیت بخیر و عافیت لڑنے لگا گیا ہے۔ ذیل احمد چوہدری ٹرسٹ۔

② عزیزم خارا انبال قریشی ابن قریشی عبدالحق صاحب و زوجہ آف راولپنڈی کا رخصتانہ حورقہ مئی کو برمکان خلیفہ عبد الوکیل صاحب محل میں آیا۔ عزیزم کالکاح گزشتہ سال چوہدری احمد جان صاحب امیر جماعت احمدیہ راولپنڈی نے عزیزہ راقۃ الدیر صوبہ رشتہ خواہر شہزادہ ہاؤس اول صوبہ

یہ سب کچھ سن کر میری بی. اور کہ وہ جماعت احمدیہ کا سخت مخالف ہے۔ اس نے پولیس کو حوالہ پر
 بلا لیا۔ اور ان کو واضح کرنے کی کوشش کی۔ کہ یہ لڑکا اسماعیلی جاسوس ہے۔ اور مرزا
 قادیانی ہے۔ مگر ان کو سمجھ نہ آئی۔ یہ واقعہ ۱۲ نومبر ۱۹۴۹ء کا ہے۔ آخر پولیس والے چھ
 لکڑا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اور مسجد نبوی کے محب میں جو تھانہ ہے۔ اُس میں لے گئے اور
 چھ سے ایک ساغر پر دستخط کرائے۔ یہ ثابت نہ کر سکتے تھے کہ میں احمدی ہوں۔ لہذا صغیر کو انہوں
 نے اپنے قبضہ میں لے لیا۔

پھر اُن پولیس کے دو سپاہی میرے ساتھ دیری ریموٹ گاہ پر گئے۔ اور میرا
 پاسپورٹ حاصل کیا۔ اور میرے والدین تھانہ میں پہنچے۔ دیری اہلیہ کو جب پتہ چلا تو وہ
 بھی تھانہ میں پہنچی۔ اور پولیس کو بتایا کہ یہ میرا خاوند ہے۔ اور میرے بلا لے کر
 اس جگہ آیا ہے۔ دیری ایک ہمشیرہ بھی دیری اہلیہ کے ساتھ ہی اس جگہ میں
 ملازم تھی۔ جب اس کو پتہ چلا تو وہ بھی پہنچ گئی۔ میں اپنی بیوی کی ضمانت پر والدین
 اپنی جائے ریموٹ لے آ گیا۔ دیری اہلیہ نے تھانہ میں ان چھ پولیس کو اور سٹورنٹس کاٹری
 کو کہا کہ تم لوگ بوقت ہی ذلیل ہو۔ جہاں جاتے ہو۔ فتنہ پیدا کرتے ہو۔ وہ پولیس کو تو
 دلاتے کہ دیکھو یہ لڑکی ہمیں گامیاں دیتی ہے۔ مگر انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔

ہمارے تھانے سے چلے آنے کے بعد یہ چھ پولیس لوگ کچھ لپٹیاں لوٹے۔ اور نہ
 معلوم بعد میں ہمارے خلاف کیا کچھ مضرہ کرتے رہے۔ اور پولیس کو گوشہ مارا کرتے
 رہے۔ آخر ایک دن پھر پولیس کے سپاہی ہمارے پاس آئے اور حکم دیا کہ فلاں تاریخ
 کو تھانہ میں حاضر ہو کر مزید بیان دو۔ چنانچہ تاریخ مقررہ پر میں مجھ اپنی اہلیہ کے بھائی
 میں پہنچ گیا۔ اور ہم پیریت سے سوالات کئے گئے۔ چنانچہ تسلی بخش جواب اسلامی طریقہ
 کے مطابق دیا گیا۔ کلمہ شہد لپٹھ کر سنانے کیلئے کہا گیا۔ سو وہ سزا دیا گیا۔ باقی ارادہ
 اوکان نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں تسلی بخش جواب دیئے گئے۔ پولیس والے
 حیران تھے کہ کیا کریں۔ آخر دریافت کیا کہ تم غیر مسلم ہو تو حق پر خلیفۃ المسیح مہدی علیہ السلام
 محمود احمد کا نام کیوں درج ہے؟ ہم نے ایسا کہ یہ ہمارا جماعت احمدیہ کے احکام اور خلیفہ ہیں۔ انہوں
 نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے۔ جب کہ یہ بزرگوں میں سے ہیں ایک نے ترجمہ کیے ہیں کلام
 پاک وہی ہے اس میں کوئی رد و اہل نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ رسول پاک کے بعد
 تو خلیفہ مہدی ہو چکی ہے۔ ہم یہ کیسے خلیفہ ہو سکتے ہیں؟ ہم نے اپنی قابلیت کے مطابق ان کو
 سمجھانے کی کوشش کی۔ مگر وہ اچھی طرح سمجھ نہ پائے (باقی آئندہ)

پہل و تہار (مدینہ کا قیدی)

(یہ مضمون بلکہ ان کے ساتھ پیش آتیوالا سچا واقعہ حکم عبدالرحمن صاحب اقتدار آف

سمتوں نے بغیر ایسے جو ان ہی کی زبانی پیش کیا جا رہے ہیں)

27 اکتوبر 1969ء کو میں درجنہ منورہ پہنچ گیا۔ سید نبوی میں نماز ادا کی۔ اور خداوند کی

ہر بات کا شکر ادا کیا۔ کہ اُسکی دی ہوئی توفیق سے یہ موقع ملا۔ میرے وار جو پیر کا تھا اب
الدرین (سب الیکٹریسیں ریٹائرڈ تھیں) نے روانگی سے پیشتر مجھے تفسیر متعبد کا ایک نسخہ قریب
کر ساتھ لے جاتے کیلئے دیدیا۔ اور ہدایت کی کہ روزانہ اسکو پڑھ ادا کرنا۔ نہ ہی مجھ اور نہ ہی
والد صاحب کو یہ معلوم تھا۔ کہ اگر یہ جماعت کا شاخ شدہ ایلیکٹر بشمول قرآن کیم سودی عرب میں
لے جاتے کی اجازت پائیں۔ چنانچہ والد صاحب کی ہدایت کے مطابق تفسیر متعبد ساتھ لے کر عصر کی
نماز کے بعد سید نبوی میں تلامذت کرتا۔ اور شام کی نماز کے بعد واپس گھر آجاتا۔

ماہ رمضان المبارک شروع ہو چکا تھا۔ ایک دن میں حبیب جموں سید نبوی میں نماز
عصر کے بعد تلامذت قرآن کیم کر رہا تھا کہ میرے نزدیک ایک ادھیڑ عمر شخص میرے بائیں طرف
آکر نماز میں مشغول ہوا۔ تمام حالات کے تحت میری اسکی طرف کوئی خاص توجہ نہ ہوئی کہ اس نے
سرم پھیرنے کے بعد میری طرف دہ کر کے تفسیر متعبد کو غور سے دیکھا۔ پھر اسکی خوبصورت جلد پر
نظر کی۔ اور دریافت کیا کہ یہ خوبصورت جلد والی کونسی کتاب ہے؟ میں نے یہاں ورق الٹ کر اسکو
دکھادیا۔ تو اس نے بڑے تعجب سے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ کلام پاک ہے۔ اور الزام
کا کلام ہے۔ جب اس نے سرورق پر حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضوان اللہ علیہ فرمایا تو مجھ کو دھماکا
خاک دیکھا تو جل بھٹ گیا۔ اور اپنے لگا کہ یہ کلام پاک نہیں یہ لغو وباللہ فحش و فکروہ کتاب
ہے۔ اسکی یہاں ایسی خبرات تم نے کہیں کی۔ میں نے کہا کہ ایسے الفاظ کیوں نہ سے نکال رہے
ہو۔ یہ خدا تعالیٰ کا کلام پاک ہے۔ کہ جو اس درجنہ منورہ کی مسجد کی حدود میں کچھ حصہ مبارک
رسول پاکؐ پر نازل ہوتا رہا ہے۔ مگر وہ بڑی قیادت سے اپنے الفاظ کے اظہار پر ڈھارے ہیں
نے بھی اسے اخیر کسی جھجک کے جواب دیا۔ اس تلخ کلامی کے دوران اور بھی بہت سے پاکستانی
مولوی جو غالباً تعلیم کرائے درجنہ منورہ کی درگاہ میں آتے ہیں آج موجود ہوئے۔ میری جواب
الجواب اور جرات نذرانہ باتوں کو سنکر اس نے کہا کیا تو گھر والے کا رشتہ والا ہے اور جیسے نہیں
جانتا؟ میں نے کہا کہ آج میں سودی عرب کی حدود میں ہوں۔ اگر پاکستان میں ہوتا تو تمکو
آباد تیا کہ میں کہاں کا رہنے والا ہوں۔ چنانچہ مجھ کو میں بتا دیا کہ اس شخص کا نام اسلم

پروگرام اکبرائے اجتماع چاند پورہ ضلع گجرات

۷۸۔ کو افتخار کا پیرہن کا پیروگرام نذر جہ ذیل ہوگا۔

تلاوت قرآن مجید - عہد نامہ - حدیث - نظم

مقابلہ جات - (۱) مقابلہ زلزلہ قرآن کریم - سورۃ بنی اسرائیل کا کون سا رکوع۔

(۷) مقابلہ (نظم) - ذکرِ خدایہ زور دینا طلبِ دل مٹائے جا (مکالمہ محمود)

۱۳۔ مقابلہ تقاریر۔ تقریروں کے عنوان مدرسہ داخل ہیں۔

① آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ (اس خلافت (اس مغربی معاشرے میں عورت کا مقام

THE MOHAMMAD THE LIBERATOR OF WOMEN

آفریں بیت بازی کا مقابلہ ہو گا جس میں صدف درخشاں اور کلام محمود کے اشعار بڑھنے لگیں۔

دوسرے دن مسجد کیلئے جہزہ اکٹھا کر دینی عرض سے سڑال لٹاٹ جائیگی۔ جن پر کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ بیٹوں کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں فروخت کی جائیگی۔ اور اگر کھیلوں کیلئے کسی گارڈ کا انتظام ہو اور کھانا، تر وادرات کی گنت کے مقابلے بھی ہوں گے۔

ملک خدام الاحمریہ

تاریخ: ۱۲ مئی ۱۹۷۸ بروز ہفتہ۔ بوقت: ۹ ۱/۲ بجے۔ جگہ: BOYD'S PARK

داخلہ - تین ڈالر (بچہ سارا - الے اولیہ ۵۰ روپے)

<p>661-4137 - وسید خان</p> <p>630-0947 - دانیال خان</p> <p>759-4925 - ناصر حمید</p>	<p>2 Miles</p> <p>ISLINGTON AVE</p>	<p>BOYD & PARK</p>	<p>HWY 7</p>
<p>BRAMALEA ←</p>			<p>HWY 400</p>

① جناب محمد اسلم قریشی صاحب لٹریچر و تشریف لے آئے ہیں۔ اور ایڈر کی جاتی ہے کہ کہ جفعہ ۲۶ مئی کو شن کاؤس میں چھ بجے بعد نماز مبلغ گیانا محمد اسلم قریشی صاحب تبلیغ الاسلام پر تقریر فرمائیں گے۔ دوستوں سے شرکت کی درخواست ہے۔

(۲) کٹوتہ: کٹوتہ اکی تمام جماعتوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی جماعت کے ان افراد کی فہرست یا تہذیبی اداروں کو بھیجیں جو کٹوتہ میں شرکت کر رہے ہیں۔ تاہم اس کے مطابق رعائت کا انتظام کیا جاسکے۔

کتابت در ۱۳۰۵